



آپ کی درخواست مسترد ہو جائے۔
تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟

DRC DANISH
REFUGEE
COUNCIL

DANISH REFUGEE COUNCIL
Borgergade 10, 3rd
DK-1300 Copenhagen K

Tel +45 3373 5000
Fax +45 3391 4507
www.flygtning.dk
return.advice@drc.dk

**DANISH
RED
CROSS**

DANISH RED CROSS
Rosenørns Allé 31
1970 Frederiksberg C

Tel +45 29 10 39 33
www.rodekors.dk
E-mail: return@redcross.dk

DRC DANISH
REFUGEE
COUNCIL

**DANISH
RED
CROSS**

مسترد کردہ پناہ خواہوں کے لیے مشاورت کی درخواست

نام :

شناختی نمبر :

نابالغ بچوں کا شناختی نمبر :

زبان :

پتہ :

میں ڈنمارک میں اپنی پناہ گزینی کی درخواست کے مسترد کیے جانے سے متعلق ایک آزاد انسان دوست تنظیم کے ساتھ ایک انفرادی مشاورت کا خواہاں ہوں۔

میں ڈینش حکام کو اپنی اور اپنے نابالغ بچوں کی درخواست پناہ گزینی کی کیس فائل کا اشتراک کرنے کی منظوری دیتا ہوں اور اگر قابل اطلاق ہو، تو انسان دوستی کی بنیاد پر ڈینش ریفیوجی کونسل اور ڈینش ریڈ کراس سوسائٹی دونوں کو کی گئی اقامتی درخواست کے اشتراک کی بھی منظوری دیتا ہوں۔

میں نے دیگر کسی ملک میں حکام کو اس معلومات کے اشتراک کی رضامندی نہیں دی ہے۔

دستخط

تاریخ

آپ کی درخواست مسترد ہو جائے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟

ڈنمارک میں تمام مسترد کردہ پناہ گزینوں کو ایک آزاد انسان دوست تنظیم کی جانب سے وضاحتی مشاورت فراہم کی جاتی ہے۔

آپ کو یہ فولڈر اس لیے ملا ہے کہ آپ کی پناہ کی درخواست مسترد ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ حتمی ہے اور آپ کسی اور ڈینش اتھارٹی یا عدالت میں اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈنمارک میں آپ کا پناہ گزینی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور ڈینش اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں۔

اب جبکہ آپ کو یہ فیصلہ موصول ہو چکا ہے، آپ اس معاملہ میں غیر یقینی صورت حال سے دوچار یا پریشان ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو کیا ہوگا۔ اس ملک کو چھوڑنے اور مسترد کردہ پناہ گزینوں کے لیے قابل اطلاق قوانین کے بارے میں آپ کے کچھ مخصوص سوالات ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک میٹنگ کرنا چاہیں جہاں آپ اپنے اختیارات اور اپنے وطن واپس ہونے پر درپیش آپ کی صورت حال پر گفتگو کرنا چاہیں اور شاید آپ ہمارے عملہ کے کسی رکن سے گفتگو کرنا چاہیں جو وہاں موجود ہو۔

آپ ایک انفرادی مشاورت کے مستحق ہیں تاکہ آپ کو پناہ گزین کے مسترد کیے جانے کی وضاحت کی جاسکے، آپ قانونی مشورہ حاصل کر سکیں اور اختیارات پر گفتگو کر سکیں اور ایسے سوالات کر سکیں جو آپ کی اپنے وطن واپسی سے متعلق ہوں۔ اس ملاقات میں ایک مترجم موجود رہے گا

اگر آپ یہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم اگلے صفحہ پر دیا گیا فارم مکمل کریں۔ آپ کے دستخط کا صرف یہ مطلب ہوگا کہ آپ مشورہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔

آپ یہ فارم اپنے پناہ گزین مرکز پر موجود عملہ کو دے سکتے ہیں یا ہمیں براہ راست بھیج سکتے ہیں۔ اگلے صفحہ پر رابطہ معلومات ملاحظہ فرمائیں۔

